

# Amo

## Chapter 2

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	כֹּה	אָמַר	יְהוָה	עַל-	שְׁלֹשָׁה	פְּשָׁעֵי	מוֹאָב	וְעַל-	אַרְבָּעָה	לֹא
	یوں	فرماتا-ہے	یہوواہ	کی-وجہ-سے-	تین	گناہوں-کے	موآب-کے	اور-کی-وجہ-سے-	چار	نہیں
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H6588</a>	<a href="#">H4124</a>		<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H3808</a>
	אֲשִׁיבֶנּוּ	עַל-	שָׂרְפוּ	עֲצָמוֹת	מֶלֶךְ-	אָדוֹם	לְשִׁיר:	כֹּה	אָמַר	יְהוָה
	پھروں-گا-اُسے	کی-وجہ-سے-	جلانے-اُس-کے	ہڈیاں	بادشاہ-	ادوم-کی	چوٹے-تک			
	<a href="#">H7725</a>		<a href="#">H8313</a>	<a href="#">H6106</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0123</a>	<a href="#">H7875</a>			

بڈیوں کی بادشاہ کے ادوم نے انہوں کیونکہ گا۔ چھوڑوں نہیں بغیر دیئے سزا انہیں مہیں لئے اس ہے، کیا گناہ بار بار نے باشندوں کے [ ] موآب ہے، فرماتا رب ہے۔ دیا کر راکھ کر جلا کو

2	וְשִׁלַּחְתִּי-	אֵשׁ	בְּמוֹאָב	וְאָכְלָהּ	אַרְמְנוֹת	הַקְּרִיּוֹת	וַיִּמָּט	בְּשָׂאוֹן	מוֹאָב	
	اور-بھیجوں-گا-	آگ	موآب-میں	اور-کھا-جائے-گی	محلات	-قربوت-کے	اور-مرے-گا	شور-میں	موآب	
	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H4124</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0759</a>	<a href="#">H7152</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H7588</a>	<a href="#">H4124</a>	
	בְּתוֹרֵעָה	בְּקוֹל	שׁוֹפָר:	לְלֹא-سے	آواز-میں	نرسنگے-کی				
	<a href="#">H8643</a>		<a href="#">H7782</a>							

گے، جائیں ہو بلند نعرے کے فوجیوں گا، مجھے شرابہ شور کا جنگ گے۔ جائیں ہو آتش نذر محل کے قریوت اور گا، کروں نازل آگ پر موآب ملک مہیں چنانچہ گا۔ جائے ہو بلاک موآب تب گا۔ جائے پھونکا نرسنگا

3	וְהִקְרַתִּי	שׁוֹפֵט	מִקְרָבָה	וְכַל-	שָׂרִיָּה	אֶהְרֹג	עִמּוֹ	אָמַר		
	اور-کاٹ-ڈالوں-گا	حاکم-کو	اُس-کے-درمیان-سے	اور-سب-	اُس-کے-امراء-کو	قتل-کروں-گا	اُس-کے-ساتھ	فرماتا-ہے		
	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H269</a>	<a href="#">H2026</a>		<a href="#">H0559</a>		
	יְהוָה:	יְהוָה								
		یہوواہ								
		<a href="#">H3068</a>								

ہے۔ فرمان کا رب یہ گا۔ [ ] دوں کر بلاک سمیت افسروں تمام کے اُس کو حکمران کے اُس مہیں

4	כֹּה	אָמַר	יְהוָה	עַל-	שְׁלֹשָׁה	פְּשָׁעֵי	יְהוּדָה	וְעַל-	אַרְבָּעָה	לֹא
	یوں	فرماتا-ہے	یہوواہ	کی-وجہ-سے-	تین	گناہوں-کے	یہوداہ-کے	اور-کی-وجہ-سے-	چار	نہیں
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H6588</a>	<a href="#">H3063</a>		<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H3808</a>
	אֲשִׁיבֶנּוּ	עַל-	מִאֲסָם	אֶת-	תּוֹרַת	יְהוָה	וַיִּחְקִי	לֹא	שָׁמְרוּ	
	پھروں-گا-اُسے	کی-وجہ-سے-	رد-کرنے-ان-کے	-	شریعت	یہوواہ-کی	اور-اُس-کے-احکام	نہیں	مانے	
	<a href="#">H7725</a>			<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2706</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H8104</a>	
	וַיִּתְּעוּם	אֵשׁ	בְּיַהֲדָה	אֲשֶׁר-	הָלְכוּ	אֲבוֹתָם	אֲחֵרֵיהֶם:			
	اور-بہکا-دیا-انہیں	ان-کے-جھوٹوں-نے	جن-کے-	پیچھے-چلے	ان-کے-باپ-دادا	ان-کے-پیچھے				
	<a href="#">H8582</a>	<a href="#">H3577</a>		<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H0001</a>					

کر رد کو شریعت کی رب نے انہوں کیونکہ گا۔ چھوڑوں نہیں بغیر دیئے سزا انہیں مہیں لئے اس ہے، کیا گناہ بار بار نے باشندوں کے [ ] یہوداہ ہے، فرماتا رب ہے۔ کرتے بھی دادا باپ کے اُن پیروی کی جن دیوتا وہ ہیں، گئے لے پر راہ غلط انہیں دیوتا جھوٹے کے اُن کیا۔ نہیں عمل پر احکام کے اُس کے

5	וְשִׁלַּחְתִּי	אֵשׁ	בְּיַהֲדָה	וְאָכְלָהּ	אַרְמְנוֹת	יְרוּשָׁלַם:				
	اور-بھیجوں-گا	آگ	یہوداہ-میں	اور-کھا-جائے-گی	محلات	یروشلم-کے				
	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0759</a>	<a href="#">H3389</a>				

گئے۔ [ ] جائیں ہو آتش نذر محل کے یروشلم اور گا، کروں نازل آگ پر یہوداہ میں چنانچہ

6	כָּהֵן	אָמְרָם	יְהוָה	עַל-	שְׁלֹשָׁה	פְּשָׁעֵי	יִשְׂרָאֵל	וְעַל-	אֲרֻבָּעָה	לֹא
	یوں	فرماتا ہے	یہوواہ	کی - وجہ سے -	تین	گناہوں کے	اسرائیل کے	اور - کی - وجہ سے -	چار	نہیں
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H6588</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H3808</a>

	אֲשִׁיבֶנּוּ	עַל-	מִכְרָם	בְּכֶסֶף	צְדִיק	וְאֲבִיוֹן	בְּעֶבֶר	נְעֻלִים:
	پھروں - گا - اُسے	کی - وجہ سے -	بیچنے - اُن کے	چاندی - میں	راستباز - کو	اور - غریب - کو	کی - خاطر	جوتیوں
	<a href="#">H7725</a>		<a href="#">H4376</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H6662</a>	<a href="#">H0034</a>	<a href="#">H5668</a>	<a href="#">H5275</a>

لئے کے پیسے کو لوگوں شریف وہ کیونکہ گا۔ چھوڑوں نہیں بغیر دیئے سزا اُنہیں میں لئے اس ہے، کیا گناہ بار بار نے باشندوں کے [ ] اسرائیل ہے، فرماتا رب جائے۔ مل جوتا جوڑی ایک تاکہ ہیں کرتے فروخت کو مندوں ضرورت اور بیچتے

7	הַשְּׂאֵפִים	עַל-	עֲפָר-	אֶרֶץ	בְּרָאשׁ	יְלָיִם	וְרָדָה	עֲנָוִים	יָטוּ	וְאִישׁ
	- جو - ہانپتے - ہیں	پر -	خاک -	زمین - کی	سروں - پر	غریبوں - کے	اور - راہ	حلیموں - کی	بگاڑتے - ہیں	اور - آدمی
			<a href="#">H6083</a>	<a href="#">H0776</a>		<a href="#">H1800</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H6035</a>	<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H0376</a>

	וְאֲבִיו	יִלְכוּ	אֶל-	הַנְּעֻזָּה	לְמַעַן	חֻלָּה	אֶת-	נָשָׁם	קְדָשֵׁי:
	اور - اُس - کا - باپ	جاتے - ہیں	کے - پاس -	- ایک - بی - لڑکی	تاکہ	ناپاک - کریں	-	نام	میرے - قدوس
	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H4616</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H6944</a>

کی نام میرے کر جا پاس کے کسبی ہی ایک دونوں بیٹا اور باپ ہیں۔ روکتے سے ملنے انصاف کو زدوں مصیبت دیتے، کچل پر زمین کو سر کے غریبوں وہ ہیں۔ کرتے بے حرمتی

8	וְעַל-	בְּנֵדִים	חֲבָלִים	יָטוּ	אֶצֶל	כָּל-	מִזְבַּח	וַיִּין	עֲנוּשִׁים	יִשְׁתָּו
	اور - پر -	کپڑوں	گروی - رکھے - ہوئے	لیختے - ہیں	پاس	پر -	قربان - گاہ - کے	اور - مے	جرمانے - کی	بیتے - ہیں
				<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H0681</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H3196</a>	<a href="#">H6064</a>	<a href="#">H8354</a>

בֵּית אֱלֹהֵיהֶם:  
گھر - میں اپنے - معبود - کے  
[H0430](#)

اپنے کبھی جب تھے۔ دیئے پر طور کے ضمانت نے داروں قرض جو ہیں کرتے آرام پر کپڑوں ایسے تو ہیں جاتے کرنے پوجا پاس کے گاہ قربان کسی کبھی جب تھے۔ گئے مل سے مندوں ضرورت پر طور کے جرمانہ جو ہیں پیتے کر خرید مے سے پیسوں ایسے تو جاتے میں مندر کے دیوتا

9	וְאֲנָכִי	הַשְּׂמֵרָתִי	אֶת-	הָאֲמֹרִי	מִפְּנֵיהֶם	אֲשֶׁר	כְּזָבָה	אֲרָזִים	נִבְחָו
	اور - میں - نے	بلاک - کیا	-	- اموری - کو	اُن کے - آگے - سے	جس - کی	جیسی - اونچائی	دیودار - کی	اُس - کی - قامت
	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H8045</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0567</a>	<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H1363</a>	<a href="#">H0730</a>	<a href="#">H1363</a>

	וְחֶסֶן	הוּא	כְּאֲלוֹנִים	וְאֲשֶׁמִיד	פְּרִיֹו	מִזְעֵל	וְשָׂשׂוּ	מִתְחַת:
	اور - مضبوط	وہ	بلوطوں - جیسا	اور - میں - نے - نابود - کیا	اُس - کا - پھل	اور - پر - سے	اور - اُس - کی - جڑیں	نیچے - سے
	<a href="#">H2634</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0437</a>	<a href="#">H8045</a>	<a href="#">H6529</a>	<a href="#">H4605</a>	<a href="#">H8328</a>	<a href="#">H8478</a>

طاقت جیسے درختوں کے بلوط اور لمبے جیسے درختوں کے دیودار وہ حالانکہ تھا، دیا کر نیست آگے آگے کے اُن کو اموریوں نے ہی میں ہے؟ بات کیسی یہ تھا۔ دیا مٹا سمیت پھل اور جڑوں کو اموریوں نے ہی میں تھے۔ ور

10	וְאֲנָכִי	הַעֲלִיתִי	אֶתְכֶם	מֵאֶרֶץ	מִצְרָיִם	וְאוֹלָךְ	אֶתְכֶם	בְּמִדְבָּר	אֲרֻבָּעִים	שָׁנָה
	اور - میں - نے	نکالا	تمہیں	سرزمین - سے	مصر - کی	اور - لے - چلا	تمہیں	بیابان - میں	چالیس	سال
	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0705</a>	<a href="#">H8141</a>

לְרִשְׁתָּהּ  
قبضے - کے - لیے  
-  
سرزمین  
-  
اموری - کی  
[H0567](#) [H0776](#) [H0853](#) [H3423](#)

پہنچایا تک ملک کے اموریوں تمہیں کرتے کرتے راہنمائی تمہاری میں ریگستان تک سال چالیس نے ہی میں لایا، نکال سے مصر تمہیں ہی میں پہلے سے اس کرو۔ قبضہ پر اُس تاکہ

נָאָמִים	מִבְּיָכֶם	לְבִיָּאִים	וּמִבְּחֹרֵיכֶם	לְזָרִים	הָאָרֶץ
اور- اٹھایا- میں نے	تمہارے- بیٹوں- میں سے	نبیوں- کے- لیے	اور- تمہارے- جوانوں- میں سے	نذیروں- کے- لیے	کیا- نہیں
<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0368</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H0970</a>	<a href="#">H5139</a>	<a href="#">H0637</a>

אֵין	זֹאת	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	נָאָם	יְהוָה:
کیا- نہیں-	ایسا- ہے	بنی	اسرائیل	فرماتا- ہے-	یہوواہ
<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>

رب کروں۔ [] مخصوص لئے کے خدمت اپنی تاکہ لئے چن کچھ سے میں نوجوانوں تمہارے نے ہی میں اور کئے، برپا نبی سے میں بیٹوں تمہارے نے ہی میں تھا؟ نہیں ایسا کیا اسرائیلیو، [] اے ہے، فرماتا

וְתִשְׁקֶנּוּ	אֶת-	הַנְּזִירִים	יָיִן	וְעַל-	הַנְּבִיאִים	צִוִּיתֶם	לְאֹמֵר	לֵא	תִּנְבְּאוּ:
مگر- پلا- دی	-	-نذیروں- کو	مے	اور- پر-	-نبیوں	حکم- دیا	کہہ- کر	نہیں	نبوت- کرو
<a href="#">H8248</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5139</a>	<a href="#">H3196</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5012</a>	<a href="#">H5012</a>

کرو۔ مت نبوت کہ دیا حکم کو نبیوں اور پلائی مے کو آدمیوں مخصوص لئے میرے نے تم لیکن

הִנֵּה	אֲנֹכִי	מֵעֵק	תַּחְתִּיכֶם	כַּאֲשֶׁר	תַּעֲיֵק	הָעֵנָלָה	הַמְּלָאָה	לָהּ	עֲמִיר:
دیکھو	میں	دباتا- ہوں	تمہارے- نیچے	جیسے	دبتی- ہے	گاڑی	-بھری- ہوئی	اُس- کے- لیے	پولوں- سے
<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H5781</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H5781</a>	<a href="#">H5781</a>	<a href="#">H5699</a>	<a href="#">H4395</a>	<a href="#">H5995</a>	<a href="#">H5995</a>

گے۔ لگو جھولنے طرح کی گاڑی بیل ہوئی لدی خوب سے اناج تم کہ گا دوں ہونے میں اب

וְאֶבֶד	מְנוּס	מִקָּל	וְחֹזֵק	לֹא-	יֶאֱמָר	כַּחַז	וְנִבְּרָ	לֹא-
اور- ختم- ہو- جائے- گی	پناہ	تیز- سے	اور- طاقتور	نہیں-	مضبوط- کرے- گا	اپنی- قوت- کو	اور- بہادر	نہیں-
<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H4498</a>	<a href="#">H7031</a>	<a href="#">H2389</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0553</a>	<a href="#">H1368</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>

יְמַלֵּט	נִפְשׁוֹ:
بچائے- گا	اپنی- جان
<a href="#">H4422</a>	<a href="#">H5315</a>

گا، بچائے جان اپنی سورما نہ گا۔ پائے کر کچھ آدمی ور طاقت نہ گا، بچے کر بھاگ شخص رُو تیز نہ

וְתִפֵּשׂ	הַקֶּשֶׁת	לֹא	יַעֲמֹד	יִקַּל	בְּרִגְלָיו	לֹא	יְמַלֵּט	וְרִכָּב	הַסּוּס
اور- پکڑنے- والا	-کمان- کا	نہیں	کھڑا- رہے- گا	اور- تیز- رفتار	اپنے- پیروں- پر	نہیں	بچے- گا	اور- سوار	-گھوڑے- کا
<a href="#">H8610</a>	<a href="#">H7198</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H7031</a>	<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4422</a>	<a href="#">H7392</a>	<a href="#">H3808</a>

لֹא	יְמַלֵּט	נִפְשׁוֹ:
نہیں	بچائے- گا	اپنی- جان
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4422</a>	<a href="#">H5315</a>

سوار پر گھوڑے یا بو والا دوڑنے پیدل خواہ گا، بچے نہیں کوئی گا۔ رہے قائم والا چلانے تیر نہ

וְאֲמִיץ	לְבָבוֹ	בַּנְּבוּרִים	עָרוֹם	יָנוּס	בַּיּוֹם	הַהוּא	נָאָם	יְהוָה:	פ
اور- دلیر	اپنے- دل- سے	بہادروں- میں	ننگا	بھاگے- گا	دن- میں-	اُس	فرماتا- ہے-	یہوواہ	פ
<a href="#">H0533</a>	<a href="#">H1368</a>	<a href="#">H1368</a>	<a href="#">H6174</a>	<a href="#">H5127</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	

ہے۔ فرمان کا رب یہ گا۔ [] جائے بھاگ میں حالت ننگی کر ڈال ہتھیار بھی سورما بہادر سے سب دن اُس